

برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ کو کینیڈین اربن ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے

برامپٹن، آن (6 اکتوبر 2021) – برامپٹن ٹرانزٹ کو کینیڈین اربن ٹرانزٹ ایسوسی ایشن (CUTA) کی جانب سے انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ موصول ہوا ہے، جو CUTA کی گزشتہ تین دنوں کے دوران ورچوئل طور پر منعقد ہونے والی سالانہ کانفرنس اور ٹرانزٹ شو میں اپنی سنگ میل حیثیت رکھنے والی الیکٹریک بسوں کے ٹرائل کے لیے عطا کیا گیا ہے۔

انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ کا زمرہ ایسے کاروباری اداروں اور ٹرانزٹ سسٹمز کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کرتا ہے جن کی سرگرمیوں یا منصوبوں نے موجودہ ماحولیاتی مسائل اور ٹرانزٹ انڈسٹری کو درپیش چیلنجوں پر مثبت اثر ڈالا ہو۔ نتائج میں مکمل طور پر نئے تصورات، عوامل یا موجودہ آلات کو دوبارہ فروغ دینا شامل ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں CUTA کے ٹرانزٹ ویژن 2040 کے مطابق کم وسائل، اخراجات کی بچت یا قابل پیمائش ماحولیاتی فوائد کا تحفظ ہو سکتا ہو۔

مورخہ 4 مئی، 2021 کو، برامپٹن ٹرانزٹ نے کینیڈین اربن ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انوویشن کنسورشیم (CUTRIC) کے بین کینیڈا BEB ڈیمانسٹریشن اینڈ انٹیگریشن ٹرائل کے ایک حصے کے طور پر، معیاری اور مکمل طور پر باہمی تعاون سے چلنے والی بیٹری الیکٹریک بسوں (BEBS) اور اعلیٰ طاقت کے حامل اور ہیلڈ آن روٹ چارجنگ سسٹم کی تاریخ کی سب سے بڑی عالمی تعیناتی کا آغاز کیا۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے اپنے بیڑے میں کل آٹھ عدد BEB بسیں شامل کیں، جن میں سے دو عدد نوا بس کی جانب سے جبکہ بقیہ چھ عدد نیو فلائرز کی جانب سے فراہم کی گئیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ نوا بس، نیو فلائرز انڈسٹریز، ABB انکارپوریٹڈ کے اشتراک سے مکمل طور پر باہمی طور پر منتقلی کے قابل بسوں اور چارجنگ سسٹم کی حامل اس پہلی عالمی سروس، ایک سے زیادہ شہروں چلائی جانے والی برامپٹن ٹرانس لنک اور یارک ریجن ٹرانزٹ میں شامل ہو گیا ہے، سیمنز کینیڈا اور نیو مارکیٹ ٹائی پاور ڈسٹری بیوشن لمیٹڈ جو دنیا میں ایسا پہلا مقام ہے جہاں مختلف مینوفیکچررز کی گاڑیاں اور چارجرز کو مکمل طور پر باہمی مطابقت کے قابل شکل میں استعمال کیا جا سکے گا، یعنی وہ چارجنگ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے چارجنگ انفراسٹرکچر میں پلگ ان کیے جا سکیں گے، جس کے نتیجے میں سائٹس سے خارج ہونے والا دھواں عملی طور پر ختم ہو جائے گا۔

BEB اپنی پوری کارآمد زندگی کے دوران مضر صحت گیسوں کا صفر اخراج کریں گی۔ ہر بس 10 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل طور پر چارج کی جا سکتی ہے اور فی بس ہر سال 235 ٹن گرین ہاؤس گیسوں (CO2e) کے اخراج کی بچت ہو گی۔

اقتباسات

"برامپٹن میں پہلی عالمی بین کینیڈین بیٹری الیکٹریک بسوں کی ڈیمانسٹریشن اور انضمام کا تجربہ یقینی طور پر ماحولیاتی استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو گا۔ ہم نے اپنے شراکت داروں کو اپنے شہر کے ٹرانزٹ نیٹ ورک کو اضافہ شدہ ماحولیاتی فوائد کے ساتھ مزید آگے بڑھانے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ماحولیاتی استحکام میں سرکردہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس پہچان کو ممکن بنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ہمارے شراکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز کا شکریہ۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمیں فخر ہے کہ برامپٹن ٹرانزٹ کی پہلی الیکٹریک بسوں کے کامیاب تجربے کے بعد ہم نے CUTA کی جانب سے ماحولیاتی استحکام کا یہ نادر ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل 2050 تک برامپٹن میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 80 فیصد تک کم کرنے کے ہمارے سفر پر، ہمارے شہر میں پیدا ہونے والی کاربن کو کم کرنے کے لیے وقف ہے۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"الیکٹریک بسوں ایک سرسبز شہر کے لیے ہمارے مشن کی حمایت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پین کینیڈین بیٹری الیکٹریک بسوں کی ڈیمانڈ سٹریٹجی اور انضمام کے تجربے کی آزمائش نے ماحولیاتی فوائد کے ساتھ برامپٹن کے ٹرانزٹ سسٹم میں بھی ایک شاندار انقلاب برپا کیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی آب و ہوا پر ناخوشگوار اثرات کی ہماری شراکت کو بھی کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ دیگر میونسپلٹیوں کو استحکام کے اقدامات کی رہنمائی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔"

- ڈوگ ولینز، سٹی کونسلر، وارڈ 2 اور 6؛ ممبر انوائرنمنٹ اینڈ انٹری کمیٹی؛ ممبر، CEERP کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ٹرانزٹ عوامی نقل و حرکت میں بہتری لانے اور نقل و حرکت کا ایک فعال نظام بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور ہماری توجہ توانائی کے مؤثر استعمال اور برامپٹن میں اختراعی ٹیکنالوجیز کو لانا ہے۔" انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم بسوں کے اس جدید ٹرائل کے ساتھ ٹرانزٹ کو کس طرح ماحول دوست بنا سکتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"2021 کے کامیاب الیکٹریک بس ٹرائل کے لیے CUTA کا انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ جیتنے پر برامپٹن ٹرانزٹ کو مبارکباد۔ پبلک ٹرانزٹ نے ہمیشہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کیا ہے۔ صفر اخراج بسوں کا استعمال کر کے، یہ کینیڈا کے آب و ہوا کے اہداف کو پورا کرنے میں مدد دینے میں مزید شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔"

- مارکو ڈی اینجیلو، CUTA پریزیڈنٹ اور CEO

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پرابجوت کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca